

1.	موڑنا	mɔrnā v.t.	å snu, vende
	مُڑنا	muṛnā v.i.	å snu seg, vende, svinge
	مُڑ جانا	muṛ jānā v.i.	å snu seg, vende
	موڑ کاننا	moṛ (m.) kāṭnā v.t.	å ta en sving
	واپس آنا	vāpas ānā v.i.	å komme tilbake
	موڑ کاٹ کر واپس آنا	moṛ kāṭ kar vāpas ānā	å ta en u-sving
	چھوڑنا	choṛnā v.t.	forlate, gi opp, gå forbi
	عمارت	imārat m.	bygning
	دایان	dāyā adj.	høyre
	دائیں طرف	dāī taraf adv.	til høyre
	بایان	bāyā adj.	venstre
	بائیں طرف	bāī taraf adv.	til venstre
	سیدھے	sīdhe adv.	rett fram
2.	سڑک	sarāk f.	gate
	راستہ	rāsta m.	vei
	گلی	galī f.	smal gate, smug
	چوک ، چوراہا	cauk, cau-rāhā m.	veikryss
	سامنے	sāmne adv.	like overfor, tvers over
	X کے سامنے	X ke sāmne cpd. ppn.	like overfor X
	X سے آگے	X se āge cpd. ppn.	bortenfor X
3.	اشارہ	iśāra m.	tegn, trafikklys
	بتي	battī f.	lyspære, trafikklys
	اشارة کھل گیا	iśāra khul gayā	det ble grønt lys
	اشارة بند ہو گیا	iśāra band ho gayā	det ble rødt lys
	سرخ / سبز بتي	surkh / sabz battī	rødt / grønt lys
	نکڑ	nukkaṛ f.	hjørne
	گلی کی نکڑ	galī kī nukkaṛ	gatehjørne
	اڈہ	adḍa m.	holdepllass
	ٹیکسی (کا) اڈہ	ṭaiksī (kā) adḍa	drosjeholdepllass
	بسوں کا اڈہ	basō kā adḍa	bussholdepllass


Øvelse 1. Lag rollespill. Spill rollen av "B" vekselvis.

A: kyā āp batā sakte haī kě koc iſtešan (basō kā addā) kahā hai?

B: jī hā. āp yahā se sīdhe jāē. dāī taraf kā pēhlā aur dūsrā moř chor kar āp dāī hī taraf ke tīsre moř par muř jāē. bāē hāth par pēhlī hī imārat koc iſtešan kī hai.


ا : کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کوچ اسٹیشن (بسوں کا اڈہ) کہاں ہے ؟

ب : جی ہاں - آپ یہاں سے سیدھے جائیں - دائیں طرف کا پہلا اور دوسرا موڑ چھوڑ کر آپ دائیں ہی طرف کرے تیسرا موڑ پر مڑ جائیں - بائیں ہاتھ پر پہلی ہی عمارت کوچ اسٹیشن کی ہے -




A. kyā āp jānte haī kě sēnṭral fārmesī kahā hai?

ا : کیا آپ جانتے ہیں کہ سنٹرل فارمیسی کہاں ہے ؟




A: kyā āp batā sakte haī kě dāk khāna kahā hai?

ا : کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈاک خانہ کہاں ہے ؟




A. kyā āp batā sakte haī kě lāibrerī kahā hai?

ا : کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ لائبریری کہاں ہے؟




A. kyā āp batā sakte haī kě iskūl kahā hai?

ا : کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسکول کہاں ہے؟




A. kyā āp batā sakte haī kě baīk kahā hai?

ا : کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بینک کہاں ہے؟



A. kyā āp batā sakte haī kē supar mārket kahā̄ hai?

ا : کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سپر مارکیٹ کہاں ہے ؟



### Øvelse 2: Lytteprøve

Hør på dialogen og svar på spørsmålene

(جوابات کا کاغذ صفحہ ۳ سے پڑھنا پڑے گا۔)

مسافر	musāfir <i>m.</i>	reisende
میں نے جانا ہے	maī ne jānā hai	= mujhe jānā hai (ustandard urdu)
گلبرگ	Gulberg <i>m.</i>	Gulberg, en bydel i Lahore
بتا دینا	batā denā <i>v.t.</i>	å fortelle
بائیں ہاتھ	bāē hāth <i>adv.</i>	til venstre
دائیں ہاتھ	dāē hāth <i>adv.</i>	til høyre
سیدھا	sīdhā <i>adv.</i>	rett fram (panjabi-influert variantform av <i>sīdhe</i> )
بٹی والا چوک	battī vālā cauk <i>m.</i>	veikryss der det står et trafikklys
پل	pul <i>m.</i>	bro
کے نیچے سے	x ke nīce se <i>cpd. ppn.</i>	inn under x og videre
نکلنا	nikalnā <i>v.i.</i>	å komme ut
تهوڑی دیر بعد	thorī der bād	etter en stund, litt senere
گول چکر	gol cakkār <i>m.</i>	rundkjøring
گلی	galī <i>f.</i>	smal gate, smug
رکنا	rukhnā <i>v.i.</i>	å stoppe, stanse
رک جانا	ruk jānā <i>v.i.</i>	å stoppe, stanse

- سوال : ۱ - مسافر کہاں جانا چاہتا ہے ؟
- ۲ - بتی والی چوک سے کس طرف جانا ہے ؟
- ۳ - گول چکر سے کس طرف مڑنا ہے ؟
- ۴ - مکان کون سی گلی میں ہے ؟